



سینٹرل پنجاب پاکستان کپ کا نیا چیمپئن بن گیا

اسٹیٹ بینک اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے فائنل میں سینٹرل پنجاب نے علی شفیق کی تباہ کن بولنگ، طیب طاہر اور احمد شہزاد کی نصف سنچریوں کی بدولت دفاعی چیمپئن بلوچستان کو 50 رنز سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔

255 رنز کے تعاقب میں بلوچستان کی پوری ٹیم 204 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ علی شفیق نے سات اوورز میں 17 رنز کے عوض تین اہم کھلاڑیوں کو پولیٹین کی راہ دکھا کر میچ کا پانسہ پلٹا۔ محمد علی اور ظفر گوہر نے بھی دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

بلوچستان کے صرف پانچ کھلاڑی ہی ڈبل فگرز میں داخل ہو سکے۔ بسم اللہ خان 70 اور عمران بٹ 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

سینٹرل پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 48.2 اوورز میں 254 رنز اسکور کیے۔ محض 65 رنز پر ابتدائی دو وکٹیں گنوانے کے بعد سینٹرل پنجاب کے ان فارم بیٹر طیب طاہر نے اوپنر احمد شہزاد کے ہمراہ 80 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کو سنبھالا دیا۔ طیب طاہر نے پانچ چوکوں اور دو چھکوں کی بدولت 71 رنز کی اننگز کھیلی۔ احمد شہزاد 61 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ان کی اننگز میں تین چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ عامر یامین 34 اور ظفر گوہر 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بلوچستان کے اسپنر محمد جنید نے 56 رنز کے عوض پانچ کھلاڑیوں کو پولیٹین کی راہ دکھائی۔

سینٹرل پنجاب کے بیٹر طیب طاہر کو پلیئر آف دی فائنل اور ٹورنامنٹ کا بہترین بیٹر کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے ٹورنامنٹ کی 12 اننگز میں 573 رنز بنائے۔ سینٹرل پنجاب کے اسامہ میر کو 28 وکٹیں حاصل کرنے پر بولر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔ عماد بٹ کو 365 رنز اور 19 وکٹیں حاصل کرنے پر پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔ بلوچستان کے وکٹ کیپر حسیب اللہ کو وکٹوں کے پیچھے 10 شکار اور 551 رنز اسکور کرنے پر ٹورنامنٹ کا بہترین وکٹ کیپر قرار دیا گیا۔